

JUZ 14 Part 1

PRACTICE WORDS SURAH HIJR 1-42

کبھی کبھی / اکثر	رُبَّ+مَا	رُبَّمَا
آرزو کریں گے / چاہیں گے	يُودُّ	يُودُّ
چھوڑ دو انہیں	ذَرُّ+هُمْ	ذَرَّهُمْ
غفلت میں ڈالے رکھیں انہیں	يُنَلِّه+هُمْ	يُنَلِّهِمْ
جھوٹی امید / آرزو	الْأَمَلُ	الْأَمَلُ
ہم ڈال دیتے ہیں اسے	نَ+سَلُّكُ+هُ	نَسَلُّكُهُ
پس دن بھر رہیں گے	فَ+ظَلُّ+وَا	فَظَلُّوْا
چڑھ جائیں	يَعْرُجُ+وَنَ	يَعْرُجُونَ
مدہوش کر دی گئیں	سَكَّرَتْ	سَكَّرَتْ
چوری سے چاہے	اسْتَرَقَ	اسْتَرَقَ
پھیلایا ہم نے اس کو	مَدَدُ+نَا+هَا	مَدَدْنَاَهَا
بو جھل	لَوَاقِحَ	لَوَاقِحَ
پھر پلایا ہم نے تمہیں وہ	فَ+أَسْقَى+نَا+كُمُو+هُ	فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ
بجتی ہوئی مٹی	صَلْصَالٍ	صَلْصَالٍ
گارے کی بنی / کچھڑ	حَمًا	حَمًا
سڑی ہوئی	مَسْنُونٍ	مَسْنُونٍ
گرم ہوا / لوکی	ال+سَّمُومِ	السَّمُومِ
پہلے ہو گزرے ہیں	الْمُسْتَقْدِمِينَ	الْمُسْتَقْدِمِينَ
تو گر پڑنا	فَ+قَعُ+وَا	فَقَعُوا

انکار کر دیا	أَبَى	أَبَى
PRACTICE WORDS SURAH HIJR 43-99		
نکال دیں گے ہم	نَزَعْنَا	نَزَعْنَا
کینہ	غِلٌّ	غِلٌّ
کوئی تکلیف	نَصَبٌ	نَصَبٌ
مہمانوں کا	ضَيْفٍ	ضَيْفٍ
خائف ہیں	وَجِلُونَ	وَجِلُونَ
ناامید ہوتا ہے	أَلْ قَانِطِينَ	أَلْ قَانِطِينَ
معاملہ تمہارا / مقصد تمہارا	خَطْبٌ + كُمْ	خَطْبُكُمْ
البتہ ضرور ہم نجات دیں گے انکو	لَمْ نَجُوهُمْ	لَمْ نَجُوهُمْ
آئے ہیں ہم آپ کے پاس	جِئْنَاكَ	جِئْنَاكَ
وہ شک کرتے تھے	يَمْتَرُونَ	يَمْتَرُونَ
و آپ رات کو نکلیں / پس چل دیں	فَأَسْرٍ	فَأَسْرٍ
کسی حصے	بِ قِطْعٍ	بِقِطْعٍ
پیچھے ان کے	أَدْبَارَهُمْ	أَدْبَارَهُمْ
مڑ کر دیکھے	يَلْتَفِتُ	يَلْتَفِتُ
چلتے جاؤ	امْضُوا	امْضُوا
تم ذلیل کرو مجھے	تَفْضِخُونِ	تَفْضِخُونِ
جان / عمر کی قسم آپ کی	لَعْمُرِكَ	لَعْمُرِكَ
مستی اپنی / نشہ اپنا	سَكْرَتِهِمْ	سَكْرَتِهِمْ
رہوش تھے / اندھے ہو رہے تھے	يَعْمَهُونَ	يَعْمَهُونَ

سَافِلَهَا	سَافِلٍ +هَا	نیچے اس کے
أَمْطَرْنَا	أَمْطَرُ +نَا	برسائے ہم نے
سَجَّيْلٍ	سَجَّيْلٍ	کنکر کے / پکی ہوئی مٹی
لِلْمُتَوَسِّمِينَ	لِ +ل +مُتَوَسِّمِينَ	لیے اہل بصیرت کے
لِيَأْمَمِ	لِ +ب +إِمَامٍ	راستہ پر ہیں
يَنْحِتُونَ	يِ +نَحْتٌ +وْنَ	وہ تراشتے
فَاصْفَحِ	فَ +اصْفَحِ	پس درگزر کرو
الْمَثَانِي	ال +مَثَانِي	دہرائی جانے والی
تَمَدَّنَ	تَمَدَّنَ	لمبی کر / دراز کر
اخْفِضْ	اخْفِضْ	جھکا دے
جَنَاحَكَ	جَنَاحِ +كَ	بازو اپنے
عِضِينَ	عِضِينَ	ٹکڑے ٹکڑے
فَاصْدَعْ	فَ +اصْدَعْ	پس کھول کھول کر سنا دو
كَفَيْتَاكَ	كَفَيْ +نَا +كَ	کافی ہیں ہم تمہیں
يَضِيقُ	يَضِيقُ	تنگ ہوتا ہے
PRACTICE WORDS SURAH NAHL 1-21		
دِفْءٌ	دِفْءٌ	رمی کا سامان / سردیوں کے کپڑے
جَمَالٌ	جَمَالٌ	زینت ہے
تُرِيحُونَ	تُرِيحُ +وْنَ	تم شام کو چرا کر لاتے ہو
تَسْرُحُونَ	تَسْرُحُ +وْنَ	تم صبح چرانے لے جاتے ہو

بوجھ تمہارے	أَنْفَالِكُمْ	أَنْفَالِكُمْ
محنت میں ڈالے ہوئے	بِشَقِّ	بِشَقِّ
گھوڑے	الْخَيْلِ	الْخَيْلِ
نخچر	الْبُعَالِ	الْبُعَالِ
گدھے	الْحَمِيرِ	الْحَمِيرِ
کہ تم سوار ہو ان پر	لِتَرْكُبُوهَا	لِتَرْكُبُوهَا
ٹیڑھے ہیں	جَائِرٌ	جَائِرٌ
تم چراتے ہو	تُسِيمُونَ	تُسِيمُونَ
اس نے پیدا کیں / پھیلایا	ذَرَأَ	ذَرَأَ
تازہ	طَرِيًّا	طَرِيًّا
تم پہننے ہو جسے	تَلْبَسُونَهَا	تَلْبَسُونَهَا
پھاڑتی چلی جاتی ہیں	مَوَاحِرَ	مَوَاحِرَ
جھک پڑے / ڈگمگائے	تَمِيدَ	تَمِيدَ
تم شمار کر سکو گے ان کو	تُحْصَوَهَا	تُحْصَوَهَا
PRACTICE WORDS SURAH NAHL 22-44		
بوجھ اپنے	أَوْزَارَهُمْ	أَوْزَارَهُمْ
جو بوجھ اٹھاتے ہیں	يَزِرُونَ	يَزِرُونَ
عمارت ان کی	بُنْيَانَهُمْ	بُنْيَانَهُمْ
پس گر پڑی	فَحَرَّتْ	فَحَرَّتْ
چھت	السَّقْفُ	السَّقْفُ
تم جھگڑا کرتے تھے	تُشَاقِقُونَ	تُشَاقِقُونَ

آپ کو حرص ہو	ت+حرص	تَحْرِصُ
سخت سخت / پکی	جَهْدَ	جَهْدَ
ارادہ کرتے ہیں ہم جس کا	أَرَدْنَا+هـ	أَرَدْنَاهُ
البتہ ہم جگہ دیں گے ضرور انہیں	لَنَبُوِّنَهُمْ	لَنَبُوِّنَهُمْ

www.englishdubai.com